



کرتی پر نماز پڑھنے کے احکام



پیشکش: مجلسِ افتاء (موجہ شلای)

کرسی پر نماز پڑھنے کے شرعی مسائل پر ایک جامع اور اہم شرعی

کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام

از: مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دہلوی

پیشکش

مجلسِ افتاء (دعوتِ اسلامی)

ناشر

مکتبۃ المدین، باب المدینہ، کراچی

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ طِبْسَمُ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام

نام رسالہ:

مفتی فضیل رضا قادری عطاری مُدْتَظِّلُهُ اَلْعَالِی

از:

مجلسِ افتاء (دعوتِ اسلامی)

پیشکش:

سن طباعت:

ملکتِ المدینہ فیضانِ مدینہ باب المدینہ کراچی

ناشر:

مکتبہ امدادیہ کی شاخیں

- ❁ **کراچی:** شہید مسجد، کھارادر، باب المدینہ کراچی فون: 021-32203311
- ❁ **لاہور:** داتا دربار مارکیٹ، گنج بخش روڈ فون: 042-37311679
- ❁ **سردار آباد:** (فیصل آباد) امین پور بازار فون: 041-2632625
- ❁ **کشمیر:** چوک شہیدیاں، میر پور فون: 058274-37212
- ❁ **حیدر آباد:** فیضانِ مدینہ، آفتندی ٹاؤن فون: 022-2620122
- ❁ **ملتان:** نزد پتیل والی مسجد، اندرون بوہڑ گیٹ فون: 061-4511192
- ❁ **اوکاڑہ:** کالج روڈ بالمقابل نموشید مسجد، نزد تحصیل کونسل ہال فون: 044-2550767
- ❁ **راولپنڈی:** فضل داد پلازہ، کھٹی چوک، اقبال روڈ فون: 051-5553765
- ❁ **خان پور:** ڈرائی چوک، نہر کنارہ فون: 068-5571686
- ❁ **نواب شاہ:** چکر بازار، نزد MCB فون: 0244-4362145
- ❁ **سکھر:** فیضانِ مدینہ، بیراج روڈ فون: 071-5619195
- ❁ **گوچرانوالہ:** فیضانِ مدینہ، شینو پورہ موڑ، گوجرانوالہ فون: 055-4225653
- ❁ **پشاور:** فیضانِ مدینہ، گلبرگ نمبر 1، النور اسٹریٹ، صدر

E.mail: ilmia@dawateislami.net

www.dawateislami.net

بدن التجا: کسی اور کو یہ کتاب چھاپنے کی اجازت نہیں

تقریظ جلیل

عالم نبیل، فاضل جلیل اُستاز العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نسیم مصباحی دامت برکاتہم العالیہ

(رئیس دارالافتاء جامعہ اشرفیہ مبارکپور اعظم گڑھ، ہند)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وهو الفقہ الاکبر والصلوٰۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا محمد وهو العزیز الابرار
وعلى آله وصحبه الصالحين الغرر۔

آج کل شہروں میں یہ فیشن چل پڑا ہے کہ در اس تکلیف کی وجہ سے یا مضمون آسان
کے لیے کچھ حضرات اسٹول (Stool) یا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے ہیں حالانکہ وہیں لوگ
گھومے پھول چل کر سجدے تک آتے جاتے ہیں اور دیر تک کھڑے کھڑے احباب سے باتیں کرتے ہیں
جبکہ قیام میں نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ جو لوگ قیام پر قادر نہ ہوتے ہوتے اسٹول
یا کرسی پر نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اور بعض حضرات مشرفاً معذور ہوتے ہیں جن
سے قیام ساقط ہو تاکہ خواہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیں یا اسٹول یا کرسی پر بیٹھ کر پڑھیں
ان کی نماز درست ہے۔

اس مسئلے پر جناب مولانا مفتی فضیل رضا عطاری زین العابدینؑ نے نہایت ہی تحقیقی فتویٰ
لکھا جو ایک رسالہ کی حیثیت رکھتا ہے یہ پورا فتویٰ میں نے پڑھا لیا ہے مفتی فضیل رضا صاحب
نے پڑھی ملاحظہ فرمائی ہے اسے احادیث اور فقہ کی روکٹوں میں یہ فتویٰ تحریر کیا ہے۔
ان کی یہ محنت قابل تحسین والائق ستائش ہے انشاء اللہ عزوجل یہ فتویٰ بہت سے
لوگوں کی نماز کی اصلاح کا ذریعہ بنے گا۔

اس فتویٰ کی میں تقدیر کرتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ عزوجل مفتی صاحب کی یہ
خدمت قبول فرمائے اور انہیں دنیا و آخرت میں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے آمین۔
بجاء حبیبہ سید المرسلین۔

محمد نسیم مصباحی

خادم الرئیس والافتاء، الجامعۃ الاشرفیہ
مبارکپور، روضہ کرم، یو پی، الهند
۶ رجادی الآخرہ ۲۰۱۵ھ، ۲۷ مارچ ۲۰۱۵ء

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام

کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ آج کل مساجد میں اس کا بہت رواج ہو گیا ہے لہذا وضاحت کے ساتھ اس کا جواب دیں تاکہ عوام الناس کو اس حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل ہو جائے؟ نیز کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والا شخص پورا قیام یا بعض صف سے آگے ہو کر کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور مساجد میں معذور افراد کیلئے کرسیاں کہاں رکھنی چاہئیں؟ مزید یہ کہ کرسی کے ساتھ لگے ہوئے تختوں پر بعض لوگ سر رکھ کر سجدہ کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہے، یہ کہنا کہ مکروہ تحریمی و گناہ ہے درست ہے یا نہیں؟

سائل: محمد عبداللہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَجْوَابُ بَعْوَنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

فرائض و واجبات اور سنت فجر میں قیام فرض ہے۔ ان نمازوں کو اگر بلا عذر شرعی بیٹھ کر پڑھیں گے تو ادا نہ ہوں گی اور اگر خود کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے مگر عصا یا دیوار یا آدمی کے سہارے کھڑا ہونا ممکن ہو تو جتنی دیر اس طرح سہارے سے کھڑا ہو سکتا ہے اتنی دیر کھڑا ہونا فرض ہے، یہاں تک کہ صرف تکبیر تحریمہ

کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے تو اتنا ہی قیام فرض ہے اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو یعنی نہ خود کھڑا ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی چیز سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے اگرچہ کچھ دیر کے لئے ہی سہی تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ یونہی کھڑے ہونے میں پیشاب کا قطرہ آتا ہے یا چوتھائی ستر ٹھلتا ہے یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے ایسا لغو و کمزور ہو چکا ہے کہ کھڑا تو ہو جائے گا مگر قراءت نہ کر پائے گا تو قیام ساقط^(۱) ہو جائے گا۔ مگر اس بات کا خیال رہے کہ سُستی و کابلی اور معمولی دقت کو مجبوری بنانے سے قیام ساقط نہیں ہوتا بلکہ اس بات کا گمان غالب ہو کہ قیام کرنے سے مرض میں زیادتی ہو جائے گی یا دیر میں اچھا ہو گا یا ناقابل برداشت تکلیف ہوگی تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ملتی ہے۔

اس فرضیت قیام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لئے جائے گا تو قیام نہ کر سکے گا، گھر میں پڑھے تو قیام کے ساتھ پڑھ سکتا ہے تو شرعاً حکم یہ ہے کہ گھر میں قیام کے ساتھ نماز پڑھے، اگر گھر میں جماعت میسر آ جائے تو فہم اور نہ تنہا ہی قیام کے ساتھ گھر میں پڑھنے کا حکم ہے۔

الغرض سچی مجبوریوں کی بناء پر قیام ساقط ہوتا ہے، اپنی من گھڑت بنائی ہوئی نام کی مجبوریوں کا شرعاً کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔

تنبیہ: قیام کے ساقط ہونے کی ایک اہم صورت یہ بھی ہے کہ اگرچہ قیام پر قادر ہو مگر سجدہ زمین پر یا زمین پر اتنی اونچی رکھی ہوئی چیز پر کہ جس کی اونچائی بارہ انگل سے زیادہ نہ ہو کرنے سے عاجز ہو تو اس سجدہ حقیقی سے عاجز ہونے کی صورت میں اصلاً قیام ساقط ہو جاتا ہے اسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے ورنہ جب

①..... یعنی معاف ہونا۔

قیام کے اوپر ذکر کئے گئے مسائل بیان کئے جاتے ہیں کہ ”اگرچہ تکبیر تحریر یہ کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے تو اتنا قیام فرض ہے ورنہ نماز نہ ہوگی“ اور اس قسم کے مسائل جو اوپر ذکر کئے گئے تو ان مسائل کی بناء پر سجدہ نہ کر سکنے کی صورت میں عوام الناس کو یہ شبہ لاحق^(۱) ہوتا ہے کہ قیام پر قدرت کے باوجود قیام کیسے ساقط ہو رہا ہے اور گمناحقہ وہ ان مسائل کو سمجھ نہیں پاتے اس لئے دونوں صورتوں میں فرق ملحوظ رکھنا چاہئے۔

کرسی پر یا اس کے علاوہ بیٹھ کر پڑھنے کے حکم شرعی کی مزید وضاحت کے لئے دو جامع صورتیں ذکر کی جاتی ہیں اس باب کے مسائل کا لُب لباب ان سے اچھی طرح ذہن نشین ہو سکتا ہے۔

(۱) قیام پر قدرت نہ ہو، بالکل قادر نہ ہو یا کچھ قیام پر قادر ہو پھر قدرت نہ رہے، مگر رکوع و سجدہ پر قادر ہے۔

اس صورت میں مریض جتنا قیام کر سکتا ہے اتنا قیام کر کے باقی نماز بیٹھ کر تو پڑھ سکتا ہے مگر چونکہ رکوع و سجدہ پر قادر ہے اس لئے درست طریقے سے بیٹھ جھکا کر رکوع کرنا ہوگا اور سجدہ بھی زمین ہی پر کرنا ہوگا زیادہ سے زیادہ بارہ انگل اونچی رکھی ہوئی چیز پر بھی سجدہ کر سکے تو اسی پر سجدہ کرنا ضروری ہے رکوع و سجدہ کی جگہ اشارہ کرنے سے اس کی نماز نہ ہوگی۔

اب اگر تائمل سے کام لیا جائے تو اس صورت میں اگر بیٹھنے والا زمین پر بیٹھا ہو تو رکوع اور سجدے کرنے میں اسے کوئی دقت نہ ہوگی لیکن اگر کرسی پر بیٹھا ہو تو سجدہ کرنے کے لئے اسے کرسی پر سے اترنا پڑے گا اور سجدہ زمین پر درست

①..... یعنی درپیش ہونا۔

طریقے سے کرنے کے بعد دوبارہ کرسی پر بیٹھنا ہوگا، اس میں چونکہ وقت بھی ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنے والا اس طرح کرے تو بڑا عجیب و غریب منظر دکھائی دیتا ہے، سجدہ بھی اسے صف سے آگے نکل کر کرنا پڑتا ہے، یوں صف کی درستگی میں بھی خلل آجاتا ہے۔

پھر اہم بات یہ کہ جب وہ سجدہ زمین پر کرنے پر قادر ہے تو قیام کے بعد اسے کرسی پر بیٹھنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب بیٹھنا ہی اس کا غیر ضروری لغو و فضول ہے تو اسے ہرگز کرسی پر نہیں بیٹھنا چاہئے، اس طرح بیٹھنے والے یا تو بلا وجہ کی وقتوں میں پڑتے ہیں یا قادر ہونے کے باوجود رکوع و سجدہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے اشاروں سے کرتے ہیں، یوں اپنی نمازوں کو فاسد کرتے ہیں۔

لہذا ایسوں کو زمین ہی پر بیٹھ کر رکوع و سجدہ درست طریقے سے باسانی ادا کر کے نماز پڑھنی چاہئے تاکہ فساد اور ہر قسم کے خلل سے ان کی نماز محفوظ رہے۔

(2) رکوع و سجدہ دونوں پر قدرت نہ ہو یا صرف سجدے پر قادر نہ ہو تو اگرچہ کھڑا ہو سکتا ہو اس سے اصلاً قیام ساقط ہو جاتا ہے۔

لہذا اس صورت میں مریض بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے بلکہ اس کے لئے افضل بیٹھ کر پڑھنا ہے اور ایسا مریض اگر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے رکوع و سجدہ بھی اشارہ سے باسانی کئے جاسکتے ہیں، یوں پوری نماز بیٹھے بیٹھے ادا ہو جائے گی، پہلی صورت کی طرح بے جا وقتوں اور فسادِ نماز وغیرہ کا اندیشہ اس صورت میں نہیں ہوتا۔

مگر چونکہ حتی الامکان دوزانوں بیٹھنا چاہئے کہ مستحب ہے اس لئے کرسی پر پاؤں لٹکا کر بیٹھنے سے احتراز کرنا چاہئے، جس طرح آسان ہوزمین ہی پر بیٹھ کر نماز ادا کی جائے، دوزانوں بیٹھنا آسان ہو یا دوسری طرح بیٹھنے کے برابر ہو تو دوزانوں بیٹھنا مستحب ہے ورنہ جس میں آسانی ہو چارزانوں یا اُکڑوں یا ایک پاؤں کھڑا کر کے ایک بچھا کر اسی طرح بیٹھ جائے، ہاں اگر زمین پر بیٹھا ہی نہ جائے تو اس دوسری صورت میں کرسی یا اسٹول یا تخت وغیرہ پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ سکتے ہیں مگر بلاوجہ ٹیک لگانے سے پھر بھی احتراز کیا جائے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی جنہیں اجازت ہوتی ہے حتی الامکان انہیں ٹیک لگانے سے احتراز کرنا چاہئے اور ادب و تعظیم اور سنت کے مطابق افعال بجالانے کی کوشش کرنی چاہئے۔

اس صورت میں چونکہ بیٹھ کر پڑھنے کی رخصت ملنے کا اصل سبب رکوع و سجود پر قادر نہ ہونا ہے اس لئے رکوع و سجود کا اشارہ کرنا ہوگا اور سجدے کے اشارہ میں رکوع سے زیادہ سر جھکانا ضروری ہے، اس بات کا بھی خیال رکھا جائے ورنہ نماز نہ ہوگی۔

کرسی پر بیٹھنے والا پورا قیام یا کچھ قیام صف سے آگے نکل کر کرے تو
اس کا حکم

مکنہ دو صورتیں بنتی ہیں: (1) صف کی سیدھ میں کرسی ہونے کی وجہ سے وہ خود صف سے آگے جدا ہو کر کھڑا ہوگا جیسا کہ عام طور پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں (2) یا پھر کرسی صف سے پیچھے کر کے خود صف کی سیدھ میں کھڑا ہوگا تو بیٹھنے کی صورت

میں صف سے جدا ہوگا اور اس کی کرسی کی وجہ سے پچھلی صف بھی خراب ہوگی۔

لہذا دونوں صورتوں میں صف بندی میں خلل کی مکروہ صورت کا ارتکاب لازم آئے گا جبکہ صف کی درستگی کی احادیث میں بہت تاکید آئی ہے کہ صف برابر ہو، مقتدی آگے پیچھے نہ ہوں، سب کی گردنیں، کندھے، ٹخنے آپس میں محاذی یعنی ایک سیدھ میں ہوں۔

اب کرسی پر بیٹھنے والوں کا جائزہ لیا جائے تو جو شخص زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں اگر وہ مجبوراً کرسی پر نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو اسے کرسی پر بیٹھ کر اشاروں سے نماز پڑھنی چاہئے تاکہ کھڑے ہونے کی صورت میں صف بندی میں خلل نہ آئے اور کراہت کا مرتکب نہ ہو۔ اور ہو سکے تو بغیر کرسی کے نماز پڑھے کہ اس صورت میں قیام کرنے اور پھر بیٹھ جانے دونوں صورتوں میں صف بندی میں خلل نہیں آتا۔

اور جو سجدہ پر قادر ہے پورے قیام پر قادر نہیں بعض پر قادر ہے اس کے لئے چونکہ ضروری ہے کہ جتنے پر قادر ہے اتنا قیام کرے یہاں تک کہ تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہو تو وہی کھڑے ہو کر کہے ورنہ اس کی نماز نہ ہوگی لہذا ایسے شخص کے لئے جماعت کے ساتھ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے میں شرعاً کوئی مجبوری نہیں ہو سکتی کہ جب سجدے پر وہ قادر ہے کچھ قیام بھی کر سکتا ہے تو قیام کے بعد اسے زمین ہی پر بیٹھنا ہوگا تو پھر کرسی کس کام کی ہے دوسروں کی ریس میں محض راحت کے لئے بیٹھنا کیا عذر بن سکتا ہے ہرگز نہیں! اگر بیٹھنے اور اٹھنے میں دقت ہوگی اس لئے تھوڑی دیر کے لئے

قیام کے بعد کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں تو انہیں تھوڑی دقت برداشت کر لینا چاہئے۔

لہذا ایسے حضرات صف میں زمین پر نماز پڑھیں، جتنا قیام کر سکتے ہوں صف میں کھڑے ہوں، باقی بیٹھ جائیں اور رکوع و سجود حقیقتاً کر کے اپنی نماز مکمل کریں، ہو سکتا ہے کہ بہت سے اس قسم کے لوگ محض کرسی کے چکر میں رکوع و سجود پر قادر ہونے کے باوجود اشارے سے نماز پڑھتے ہوں ان کی تو یوں نمازیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ انہیں جو درست مسئلہ بتائے، سمجھائے، اس پر عمل کی راہ دکھائے، کرسی کی نفسیات کی وجہ سے بعض لوگ اسے دشمن سمجھتے ہیں انہیں ہوش کرنا چاہئے، سمجھانے والا ان کا دشمن نہیں خیر خواہ ہے، ان کی نمازوں کا تحفظ چاہتا ہے، انہیں اپنا عمل درست کر لینا چاہئے۔

مسجد میں دورانِ جماعت کرسیاں کہاں رکھنی چاہئیں

کرسیاں صف کے کناروں پر رکھی جائیں، صف کے درمیان رکھنے کی وجہ سے بلا وجہ نمازیوں کو وحشت ہوگی، صف درست کرنے میں بعض اوقات درمیان میں رکھی ہوئی کرسی کی وجہ سے خلل آتا ہے، صف بناتے ہوئے کھڑے کھڑے سر کنا آسان ہوتا ہے مگر کرسی بیچ میں رکھی ہو تو اسے سر کاتے ہوئے صف درست کرنا مشکل کام ہے، عام طور پر کرسیاں کنارے ہی پر رکھی جاتی ہیں یہی مناسب ہے مگر بعض مساجد میں دائیں بائیں کے کناروں پر لائن سے چار پانچ کرسیاں سجائی ہوتی ہیں بعض کرسی پر بیٹھنے والے تکبیرِ اولیٰ سے پہلے آجاتے ہیں بعض کرسیاں خالی ہوتی ہیں عین نماز شروع ہوتے وقت وہی دقت کہ خالی کرسیوں کو اٹھانے

میں کرنی پڑتی ہے، بعض لاپرواہی سے ایسے ہی نیت باندھ لیتے ہیں صف پوری نہیں کرتے، اس جانب بھی توجہ دینی چاہئے، پہلے سے کرسیاں نہ سجائی جائیں، کوئی معذور و مریض ہوگا تو پہلی دوسری تیسری جس صف میں اسے جگہ ملے گی اسی کے کنارے اپنی کرسی رکھ لے گا۔

عام طور پر کرسیوں کی دیکھ بھال بھی مسجد کے مؤذن اور خادم کو کرنی ہوتی ہے یہ بھی بلا وجہ کی ایک وقت ان کے سر ڈالنا ہے، بعض اوقات بعض بزرگوں کی مسجد کے مؤذن یا خادم سے اُلجھنے اور انہیں جھاڑنے کی خبریں بھی ملتی رہتی ہیں اور بہت سے لوگوں نے ہو سکتا ہے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہو، اس لئے کرسی پر اگر مسجد میں بیٹھنا ہی ہے تو تمام تر شرعی اور عقلی تقاضوں اور احتیاطوں کے ساتھ بیٹھا جائے تاکہ نماز بھی درست ادا ہو اور دوسرے نمازیوں کو بھی کسی قسم کی پریشانی و وحشت نہ ہو۔

ایک اور مسئلہ جو عام طور پر جُمُعہ کی نماز میں دیکھا جاتا ہے کہ کرسیاں چونکہ اگلی صفوں میں کناروں پر رکھی ہوتی ہیں اور بعض معذور و مجبور حضرات دیر میں آتے ہیں اور دورانِ خطبہ اپنی کرسی تک پہنچنے کے لئے گردنوں کو پھلانگتے ہوئے جاتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ ”جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگیں اس نے جہنم کی طرف پُل بنایا۔“^(۱) صدر الشریعہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْہِ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ حدیث میں لفظ ”اتخذ جسراً“ واقع ہوا ہے اس کو معروف و مجہول دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں اور یہ ترجمہ معروف

①.....سنن الترمذی، ابواب الجمعة، باب ما جاء فی کراهیة الشخصی یوم الجمعة،

کا ہے اور مجہول پڑھیں تو مطلب یہ ہوگا کہ خود پل بنا دیا جائے گا یعنی جس طرح لوگوں کی گردنیں اس نے پھلانگی ہیں اس کو قیامت کے دن جہنم میں جانے کا پل بنایا جائے گا کہ اس کے اوپر سے چڑھ کر لوگ جائیں۔

ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے، ارشاد فرمایا: بیٹھ جا! تو نے ایذا پہنچائی (1)۔ (2)

تعمیہ: جماعت سے نماز پڑھنے والا کرسی پر بیٹھ کر پڑھے۔ اس حوالے سے کافی تفصیل بیان ہو چکی کہ جس کا پڑھنا جائز بھی ہے اُسے بھی چاہئے کہ صف بندی میں خلل نہ آئے، نمازیوں کو وحشت نہ ہو اس کا خیال رکھے! لیکن منفرد ہو یا جماعت کے ساتھ پڑھنے والا اگر مجبوراً کرسی پر بیٹھ کر نماز احتیاط کے ساتھ پڑھے کہ اس کی گنجائش ہے اس میں حرج نہیں، تو ایسوں کو کرسی پر سے اُٹھانے میں بے جا شدت برتا اور انہیں متنفذ کرنے کی بھی ہرگز اجازت نہیں۔ فساد کی، کراہت و خلل پر مشتمل اور اجازت کی صورتوں کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے! انہیں خلط ملط نہ کیا جائے۔

اس فتویٰ میں مسائل کافی سہل کر کے بیان کئے گئے ہیں مگر پھر بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو کسی مُعتمد عالم یا مُستند مفتی سے سمجھنے کی حاجت رہے۔

①..... سنن ابی داود، کتاب الصلاة، باب تخطی رقاب الناس یوم الجمعة، ۱/۴۱۳،

الحدیث: ۱۱۱۸.

②..... بحوالہ بہار شریعت، حصہ چہارم، ۱/۶۱۱، ۶۲۔

نوٹ: چونکہ ان اہم مسائل سے بہت سے لوگ غافل ہیں اور دوسروں کی ریس میں کرسی پر سوار تو ہو جاتے ہیں مگر ضروری مسائل سے غافل ہو کر اپنی نمازوں کو خراب کرتے ہیں، اس لئے ان مسائل کی بھرپور طریقے سے اشاعت کر کے عامۃ الناس کو غلطیوں سے بچانا چاہیے۔ بالخصوص مساجد کے ائمہ و خطباء اگر وقتاً فوقتاً انہیں بیان کرتے رہیں تو بہت سے لوگوں کا بھلا ہوگا بلکہ ضروری مسائل بغیر ذرائع کے علیحدہ کر کے مساجد وغیرہ اہم جگہوں پر آویزاں کرنا بھی مفید ثابت ہوگا۔

مُتَعَلِّقَةٌ جُزْئِيَّاتٌ

چنانچہ بخاری شریف میں ہے: عن عمران بن حصین رضی اللہ عنہ قال كانت بی بو اسیر فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاة فقال صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب یعنی حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے بو اسیر کی بیماری تھی تو میں نے اللہ عزّوجلّ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے (اس مرض میں) نماز کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر تمہیں اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کروٹ کے بل لیٹ کر پڑھو۔^(۱)

کنز الدقائق میں ہے: ”تعذر علیہ القيام أو خاف زیادة المرض صلی قاعداً یرکع ویسجد ومومیاً ان تعذر وجعل سجوده اخفض ولا

①..... صحیح البخاری، کتاب تقصیر الصلاة، باب اذا لم یطق قاعداً صلی علی جنب،

یرفع الی وجہہ شیئاً یسجد علیہ فان فعل وهو یخفص رأسہ صح والا
 لا، یعنی (مریض) پر اگر قیام کرنا مُتَعَذَّر ہو یا اسے قیام کرنے کی صورت میں مرض
 بڑھ جانے کا خوف ہو تو بیٹھ کر رکوع و سجود کے ساتھ نماز ادا کرے، اور اگر حقیقتاً رکوع
 و سجود بھی متعذر ہوں تو اشارے سے نماز پڑھے اور سجدہ کا اشارہ رکوع کی بنسبت
 پست کرے، اور کوئی چیز پیشانی کے قریب اٹھا کر اس پر سجدہ کرنے کی اجازت
 نہیں لیکن اگر کوئی چیز اٹھا کر اس پر سجدہ کر لیتا ہے تو اگر سجدہ میں بنسبت رکوع کے
 زیادہ سر جھکایا تو نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ (1)

منیہ کی شرح حلبی کبیر میں عُمْدَةُ الْمَحَقِّقِينَ عَلَامَةُ اَبْرَاهِيمَ حَلْبِي عَلَيْهِ
 الرَّحْمَةُ فرماتے ہیں: (والثانية) من الفرائض (القيام ولو صلى الفريضة قاعدًا مع
 القدرة على القيام لا تجوز) صلواته بخلاف النافلة على ما ياتي ان شاء الله
 تعالى (وان عجز المريض عن القيام) عجزًا حقيقياً او حكماً كما اذا قدر
 حقيقةً لكن يخاف بسببه زيادة مرض او بطؤ براء او يجد المأ شديداً
 (يصلى قاعدًا يركع و يسجد) لحديث عمران بن حصين اخرجہ الجماعة
 الا مسلماً قال كانت بي بو اسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوة
 فقال صل قائماً فان لم تستطع فقاعدًا فان لم تستطع فعلى جنب زاد
 النسائي فان لم تستطع فمستلقياً لا يكلف الله نفساً الا وسعها اما اذا
 كان يقدر على القيام لكن يلحقه نوع مشقة من غير الم شديد ولا خوف

1..... کنز الدقائق مع شرحه بحر الرائق، ۲/ ۱۹۷.

ازدیاد مرض او بطؤ براء فلا يجوز له ترك القيام ولو قدر عليه متكئا على عصا او خادم قال الحلواني الصحيح انه يلزمه القيام متكئا ولو قدر على بعض القيام لا كله لزمه ذلك القدر حتى لو كان لا يقدر الا على قدر التحريمه لزمه ان يتحرم قائماً ثم يقعد (فان لم يستطع الركوع والسجود) قاعداً ايضاً (اومى براسه) لهما ايماء (وجعل السجود اخفض من الركوع و لا يرفع الى وجهه شيئاً يسجد عليه) من وسادة او غيرها..... (وان قدر المريض (على القيام دون الركوع و السجود) اى كان بحيث لو قام لا يقدر ان يركع ويسجد (لم يلزمه القيام عندنا) بل يجوز ان يومى قاعداً وهو افضل خلافاً للزفر والثلاثة.... (و ذكر فى الذخيرة) انه اذا قدر على القيام والركوع دون السجود) يعنى يقدر ان يقوم و اذا قام يقدر ان يركع ولكن لا يقدر ان يسجد (لم يلزمه القيام و عليه ان يصلى قاعداً بالايماء) فقوله لم يلزمه القيام يفهم منه انه يجوز له الايماء فى كل من القيام و القعود وقوله و عليه ان يصلى قاعداً يفهم منه ان القعود لازم و انه لا يجوز الايماء قائماً (و) لكن (اكثر المشايخ على انه) لا يجب عليه الايماء قاعداً بل (يخير ان شاء صلى قائماً بالايماء و ان شاء صلى قاعداً بالايماء) لكن الايماء قاعداً افضل لقربه من السجود يعنى فرائض نماز میں سے (دوسرا فرض قیام ہے، اگر کوئی شخص قیام پر قدرت رکھنے کے باوجود بیٹھ کر فرض نماز ادا کرے گا تو) اس کی وہ نماز (درست نہیں ہوگی) بخلاف نفل کے، اس کی تفصیل ان شاء اللہ آگے (اس کے مقام پر) مذکور ہوگی۔

(اگر مریض قیام کرنے سے عاجز ہو)، چاہے وہ بجز حقیقی ہو یا حکمی مثلاً: **فِي نَفْسِهِ قِيَامٌ** پر قادر تو ہے مگر قیام کی وجہ سے مرض بڑھ جانے یا دیر سے صحت یاب ہونے کا خوف ہو، یا قیام کی وجہ سے شدید درد محسوس ہوتا ہو تو ان صورتوں میں (بیٹھ کر رکوع و سجود کے ساتھ نماز ادا کرے گا)، اس کی دلیل حضرت عمران بن حصین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی روایت ہے کہ جسے امام مسلم کے علاوہ محدثین کی جماعت نے روایت کیا کہ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی بیماری تھی تو میں نے حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے نماز کے متعلق سوال کیا تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو کروٹ کے بل لیٹ کر نماز پڑھو، نسائی شریف کی روایت میں مزید اس بات کا بھی اضافہ ہے کہ اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو چت لیٹ کر نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔“ البتہ اگر قیام پر قادر بھی ہو اور تھوڑی بہت مشقت اسے ہوتی ہے مگر قیام کی وجہ سے اسے درد شدید نہیں ہوگا اور نہ ہی مرض بڑھنے یا دیر سے شفا یاب ہونے کا خوف ہے تو (اس معمولی سی تکلیف کی وجہ سے) قیام ترک کرنے کی اجازت نہیں ہوگی بلکہ عصا یا خادم پر ٹیک لگا کر قیام کر سکتا ہو تو امام حَلَوَانِي عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ فرماتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق اس شخص پر ٹیک لگا کر قیام کرنا لازم ہے، اور اگر کچھ دیر کھڑا ہو سکتا ہے تو اسی قدر قیام لازم ہے حتیٰ کہ اگر صرف تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے تو اتنا ہی لازم ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہے پھر بیٹھ جائے۔ (اور اگر مریض رکوع و

سجود پر بھی قادر نہ ہو تو) بیٹھ کر (اشارے سے نماز پڑھے اور سجدہ کا اشارہ رکوع کی بنسبت زیادہ پست کرے اور سجدہ کے لئے پیشانی کی طرف) تکیہ وغیرہ (کوئی چیز نہ اٹھائے).... اور مریض (اگر کھڑا ہو سکتا ہے مگر رکوع و سجود نہیں کر سکتا تو ہمارے نزدیک اس پر قیام لازم نہیں)، وہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے بلکہ یہی اس کے لئے افضل ہے برخلاف امام زُفر اور ائمہ شافعیہ کے.... (ذخیرہ میں مذکور ہے کہ جو شخص قیام و رکوع پر قادر ہو مگر سجدہ پر قدرت نہ رکھتا ہو تو اس پر قیام لازم نہیں ہے، اس پر لازم ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے نماز ادا کرے)، اھ۔ صاحب ذخیرہ کے فرمان ”لم یلزمہ القیام“ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسے دونوں صورتوں کی اجازت ہے کہ کھڑے ہو کر اشارے سے نماز پڑھے یا بیٹھ کر بہر صورت جائز ہے لیکن آگے ذکر کردہ عبارت ”علیہ ان یصلی قاعدًا“ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پر قعود لازم ہے، کھڑے ہو کر اشارے سے ادا کرنے کی اجازت نہیں، لیکن (اکثر مشائخ کا مذہب یہ ہے کہ) اس پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا واجب نہیں ہے (اسے اختیار ہے کہ کھڑے ہو کر اشارے سے نماز ادا کرے یا بیٹھ کر) البتہ بیٹھ کر ادا کرنا افضل ہے کہ یہ سجدہ کی حالت سے زیادہ قریب ہے۔^(۱)

تنویر الابصار و در مختار میں ہے: ”(ومنها القیام فی فرض) وملحق به وسنة فجر فی الاصح (لقادر علیہ) وعلی السجود، فلو قدر علیہ دون السجود ندب ایماؤہ قاعدًا وکذا من یسیل جرحه لو سجد وقد یتحتم القعود کمن یسیل جرحه اذا قام او یسلس بولہ او یدو ریع عورتہ او

1..... از: حلبی کبیر، ص ۲۶۱-۲۶۶، ملقطاً.

يضعف عن القراءة أصلاً او عن صوم رمضان و لو اضعفه عن القيام
 الخروج لجماعة صلى في بيته قائماً به يفتى خلافاً للاشياء، یعنی انہیں
 فرائض میں سے نماز فرض اور اس سے ملحق (یعنی واجب) اور اُصح قول پر سنتِ فجر
 میں بھی قیام پر قادر شخص کیلئے قیام فرض ہے اور قادر سے مراد وہ شخص ہے کہ جو قیام
 اور سجدہ دونوں پر قادر ہو لہذا اگر کوئی شخص قیام پر تو قادر ہے مگر سجدہ پر قادر نہیں تو اس
 کے لئے بیٹھ کر اشارے سے نماز ادا کرنا مستحب ہے یونہی وہ شخص کہ سجدہ کرنے کی
 صورت میں جس کا زخم بہتا ہو (اس کے لئے بھی بیٹھ کر اشارے سے نماز ادا کرنا مستحب
 ہے) اور کبھی بیٹھ کر نماز ادا کرنا ہی مُتَعَيِّنٌ و لازم ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ شخص کہ کھڑے
 ہونے سے جس کا زخم بہتا ہو یا پیشاب کے قطرے آتے ہوں یا کھڑے ہونے کی
 وجہ سے چوتھائی ستر کھل جائے گا یا قیام کرنے کی صورت میں قراءت بالکل بھی
 نہیں کر سکے گا یا رمضان کے روزے نہیں رکھ پائے گا (تو ان صورتوں میں بیٹھ کر ہی
 نماز پڑھنا لازم ہے) اور اگر جماعت میں جانے کی وجہ سے قیام کرنے میں ضَعْف
 پیدا ہوتا ہے (یعنی اگر مسجد میں حصولِ جماعت کے لئے جائے گا تو قیام نہیں کر سکے گا جبکہ
 یہاں گھر میں پڑھتا ہے تو قیام کے ساتھ نماز ادا کر لے گا) تو اس صورت میں حکم یہ ہے
 کہ گھر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرے گا اسی پر فتویٰ دیا گیا ہے، اشباہ میں مذکور قول
 کے برخلاف۔ (1)

مثنیٰ کی عبارت ”لقادر عليه“ کے تحت علامہ شامی عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ فرماتے

1.....تنویر الابصار مع در مختار و رد المحتار، ۱/۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ملتنقلاً.

ہیں: ”فلو عجز عنه حقيقة وهو ظاهر او حکماً کما لو حصل له به الم شديد او خاف زيادة المرض وکالمسائل الآتية في قوله ”وقد يتحتم القعود... الخ“ فانه يسقط وقد يسقط مع القدرة عليه فيما لو عجز عن السجود كما اقتصر عليه الشارح تبعاً للبحر ويزداد مسألة اخرى وهي الصلاة في السفينة الحارية فانه يصلی فيها قاعداً مع القدرة على القيام عند الامام“ یعنی اگر کوئی شخص حقیقتاً قیام سے عاجز ہو اور یہ صورت ظاہر ہے یا حکماً عاجز ہو جیسے قیام کی وجہ سے اسے شدید درد ہوگا یا مرض بڑھ جانے کا خوف ہے اسی طرح ”دُر“ کی عبارت ”وقد يتحتم“ میں جو صورتیں آرہی ہیں تو وہ بھی بحرِ حکمی میں داخل ہیں ان صورتوں میں بھی قیام ساقط ہو جائے گا، اور کبھی قیام پر قدرت کے باوجود بھی قیام ساقط ہو جاتا ہے جیسا کہ سجدہ سے عاجز ہونے کی صورت میں قیام ساقط ہو جاتا ہے، شارح علیہ الرِّحْمَة نے ”بحر“ کی اتباع میں صرف اسی پر اقتضار کیا ہے اور اس پر ایک دوسرا مسئلہ اضافہ کیا جائے گا وہ چلتی ہوئی کشتی میں نماز ادا کرنے کا ہے کہ اگرچہ قیام پر قادر ہو امام اعظم علیہ الرِّحْمَة کے نزدیک بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔

اور ”فلو قدر عليه“ کے تحت فرماتے ہیں: ”ای علی القيام وحده او مع الركوع كما في المنية“ یعنی صرف قیام پر قادر ہو یا قیام کے ساتھ رکوع پر بھی قادر ہو (بہر صورت حکم ایک ہے کہ جب سجدہ سے عاجز ہے تو قیام ساقط ہو جائیگا) جیسے کہ ”منية“ میں مذکور ہے۔^(۱)

①.....رد المحتار، ۲/ ۱۶۴.

اسی میں ”صَلْوَةُ الْمَرِيضِ“ کے باب میں ایک مسئلہ کی تحقیق کرتے

ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: ”ان كان الموضوع مما يصح السجود عليه كحجر مثلاً ولم يزد ارتفاعه على قدر لبنة اولبنتين فهو سجد حقيقى..... بل يظهر لى أنه لو كان قادراً على وضع شئ على الأرض مما يصح السجود عليه أنه يلزم ذلك“ کہ اگر وہ زمین پر رکھی چیز ایسی ہے کہ جس پر سجدہ کرنا درست ہے مثلاً پتھر پر کیا اور وہ ایک یا دو اینٹوں سے زیادہ بلند بھی نہیں تو اس پر کیا جانے والا سجدہ حقیقی سجدہ ہے..... بلکہ میرے لئے تو یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شخص زمین پر ایسی چیز کہ جس پر سجدہ صحیح ہو رکھ کر سجدہ کر سکتا ہے تو اس پر ایسا کرنا لازم ہے۔ (1)

امام اہلسنت امام احمد رضا خان عَلِيهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰنُ اپنے ایک تحقیقی فتوے میں فرضیتِ قیام میں کوتاہی کرنے والوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”آج کل بہت جہال (2) ذرا سی بے طاقتی مرض یا کسبِ سن (3) میں برے سے بیٹھ کر فرض پڑھتے ہیں حالانکہ اولاً ان میں بہت ایسے ہیں کہ ہمت کریں تو پورے فرض کھڑے ہو کر ادا کر سکتے ہیں اور اس ادا سے نہ ان کا مرض بڑھے نہ کوئی نیا مرض لاحق ہونہ گر پڑنے کی حالت ہو نہ دورانِ سر (4) وغیرہ کوئی سخت ألم شدید ہو صرف ایک گونہ (5) مشقت و تکلیف ہے جس سے بچنے کو صراحتہً نمازیں کھوتے ہیں ہم نے مشاہدہ کیا ہے وہی لوگ جنہوں نے بحیلہٴ ضَعْف ومرض فرض بیٹھ کر پڑھتے اور وہی باتوں میں اتنی دیر

①..... رد المحتار، ۲ / ۶۸۶۔ ③..... بڑھاپا۔

②..... یعنی ناواقف لوگ۔ ④..... سرگھومنا / چکرانا۔

⑤..... ایک طرح کی۔

کھڑے رہے کہ اتنی دیر میں دس بارہ رکعت ادا کر لیتے ایسی حالت میں ہرگز تَعَوُد کی اجازت نہیں بلکہ فرض ہے کہ پورے فرض قیام سے ادا کریں۔ ”کافی شرح وافی“ میں ہے: ”ان لحقه نوع مشقة لم يعجز ترك القيام“ اگر آدمی مشقت لاحق ہو تو ترک قیام جائز نہ ہوگا۔ (ت)

ثانیاً: مانا کہ انہیں اپنے تجربہ سابقہ خواہ کسی طبیب مسلمان حافظ عادل مستور الحال^(۱) غیر ظاہر الفسق^(۲) کے اخبار^(۳) خواہ اپنے ظاہر حال کے نظر صحیح سے جو کم ہمتی و آرام طلبی پر مبنی نہ ہو بظن غالب معلوم ہے کہ قیام سے کوئی مرض جدید یا مرض موجود شدید و مدید^(۴) ہوگا مگر یہ بات طول قیام میں ہوگی تھوڑی دیر کھڑے ہونے کی یقیناً طاقت رکھتے ہیں تو ان پر فرض تھا کہ جتنے قیام کی طاقت تھی اتنا ادا کرتے یہاں تک کہ اگر صرف اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہہ سکتے تھے تو اتنا ہی قیام میں ادا کرتے جب وہ غلبہ ظن کی حالت پیش آتی تو بیٹھ جاتے یہ ابتدا سے بیٹھ کر پڑھنا بھی ان کی نماز کا مفید ہوا۔

ثالثاً: ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ بقدر تکبیر بھی کھڑے ہونے کی قوت نہیں رکھتا مگر عصا کے سہارے سے یا کسی آدمی خواہ دیوار یا تکیہ لگا کر کھل یا بعض قیام پر قادر ہے تو اس پر فرض ہے کہ جتنا قیام اس سہارے یا تکیہ کے ذریعے سے کر سکے بجائے کھل تو کھل یا بعض تو بعض ورنہ صحیح مذہب میں اس کی نماز نہ ہوگی ”فقہ مرمّن الدر ولو متکئاً علی عصا او حائط“ (ذکر کے حوالے سے گزرا اگرچہ عصا یا دیوار کے سہارے سے کھڑا ہو سکے۔ ت)

① جس کا نیک یا بد ہونا لوگوں پر ظاہر نہ ہو۔ ③ بتانا۔

② جس کا فسق ظاہر نہ ہو۔ ④ طویل۔

تبيين الحقائق میں ہے: ”لو قدر على القيام متكئاً (قال الحلواني)

الصحيح انه يصلى قائماً متكئاً ولا يجزيه غير ذلك وكذلك لو قدر ان يعتمد على عصا او على خادماً له فانه يقوم ويتكئ“ اگر سہارے سے قیام کر سکتا ہو (حلوانی نے کہا) تو صحیح یہی ہے کہ سہارے سے کھڑے ہو کر نماز ادا کرے اس کے علاوہ کفایت نہ کریگی اور اسی طرح اگر عصا یا خادم کے سہارے سے کھڑا ہو سکتا ہے تو قیام کرے اور سہارے سے نماز ادا کرے۔ (ت)

یہ سب مسائل خوب سمجھ لئے جائیں باقی اس مسئلہ کی تفصیل تام (1) و تحقیق ہمارے فتاویٰ میں ہے جس پر اطلاع نہایت ضرور و اہم کہ آجکل ناواقفی سے جاہل بعض مدعیان علم بھی ان احکام کا خلاف کر کے ناحق اپنی نمازیں کھوتے اور صراحتاً مُرتکبِ گناہ و تارکِ الصلوٰۃ ہوتے ہیں۔ (2)

صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی عَلَیْہِ الرَّحْمَۃُ بہا شریعت میں ”فرضیت قیام کے بیان“ میں فرماتے ہیں:

(1) فرض و وتر و عیدین و سنتِ فجر میں قیام فرض ہے کہ بلا عذر صحیح بیٹھ کر یہ نمازیں پڑھے گا، نہ ہوں گی۔

(2) اگر اتنا کمزور ہے کہ مسجد میں جماعت کے لئے جانے کے بعد کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے گا اور گھر میں پڑھے تو کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے تو گھر میں پڑھے، جماعت میسر ہو تو جماعت سے ورنہ تنہا۔

②..... فتاویٰ رضویہ، ۱۶۰/۶، ۱۶۱۔

①..... مکمل تفصیل۔

(3) کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں، بلکہ قیام اس وقت سا قظ ہوگا کہ کھڑا نہ ہو سکے یا سجدہ نہ کر سکے یا کھڑے ہونے یا سجدہ کرنے میں زخم بہتا ہے یا کھڑے ہونے میں قطرہ آتا ہے یا چوتھائی ستر کھلتا ہے یا قراءت سے مجبور محض ہو جاتا ہے۔ یوہیں کھڑا ہو تو سکتا ہے مگر اس سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے یا دیر میں اچھا ہو گا یا ناقابل برداشت تکلیف ہوگی، تو بیٹھ کر پڑھے۔

(4) اگر عصا یا خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے، تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھے۔ اگر کچھ دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے اگرچہ اتنا ہی کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ لے، تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اتنا کہہ لے پھر بیٹھ جائے۔

تنبیہ ضروری ”آج کل عموماً یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جہاں ذرا بخار آیا یا خفیف سی تکلیف ہوئی بیٹھ کر نماز شروع کر دی، حالانکہ وہی لوگ اسی حالت میں دس دس پندرہ پندرہ منٹ بلکہ زیادہ کھڑے ہو کر ادھر ادھر کی باتیں کر لیا کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان مسائل سے متنبہ ہوں اور جتنی نمازیں باوجود قدرت قیام بیٹھ کر پڑھی ہوں ان کا اعادہ فرض ہے۔ یوہیں اگر ویسے کھڑا نہ ہو سکتا تھا مگر عصا یا دیوار یا آدمی کے سہارے کھڑا ہونا ممکن تھا تو وہ نمازیں بھی نہ ہوئیں ان کا پھیرنا فرض۔“ (1)

بہار شریعت میں ”مریض کی نماز کے بیان“ میں بھی اس حوالے سے ضروری مسائل درج ہیں چند منتخب مسائل ملاحظہ ہوں:

(5) جو شخص بوجہ بیماری کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہیں کہ کھڑے ہو کر

پڑھنے سے ضرر^(۱) لاحق ہو گا یا مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہو گا یا چکر آتایا کھڑے ہو کر پڑھنے سے قطرہ آئے گا یا بہت شدید درد ناقابل برداشت پیدا ہو جائے گا تو ان سب صورتوں میں بیٹھ کر رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھے۔

(6) اگر اپنے آپ بیٹھ بھی نہیں سکتا مگر لڑکا یا غلام یا خادم یا کوئی اجنبی شخص وہاں ہے کہ بٹھادے گا تو بیٹھ کر پڑھنا ضروری ہے اور اگر بیٹھا نہیں رہ سکتا تو تکیہ یا دیوار یا کسی شخص پر ٹیک لگا کر پڑھے یہ بھی نہ ہو سکے تو لیٹ کر پڑھے اور بیٹھ کر پڑھنا ممکن ہو تو لیٹ کر نماز نہ ہوگی۔

(7) بیٹھ کر پڑھنے میں کسی خاص طور پر بیٹھنا ضروری نہیں بلکہ مریض پر جس طرح آسانی ہو اس طرح بیٹھے۔ ہاں دوزانو بیٹھنا آسان ہو یا دوسری طرح بیٹھنے کے برابر ہو تو دوزانو بہتر ہے ورنہ جو آسان ہو اختیار کرے۔

(8) کھڑا ہو سکتا ہے مگر رکوع و سجود نہیں کر سکتا یا صرف سجدہ نہیں کر سکتا مثلاً حلق وغیرہ میں پھوڑا ہے کہ سجدہ کرنے سے بے گاتو بھی بیٹھ کر اشارہ سے پڑھ سکتا ہے بلکہ یہی بہتر ہے اور اس صورت میں یہ بھی کر سکتا ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھے اور رکوع کے لیے اشارہ کرے یا رکوع پر قادر ہو تو رکوع کرے پھر بیٹھ کر سجدہ کے لیے اشارہ کرے۔

(9) اشارہ کی صورت میں سجدہ کا اشارہ رکوع سے پست ہونا ضروری ہے (سجدے کے لئے زیادہ سر نہ جھکا یا تو اشارے سے سجدہ ادا ہی نہ ہو گا نماز بھی نہ ہوگی) مگر یہ ضرور نہیں کہ سر کو بالکل زمین سے قریب کر دے سجدہ کے لئے تکیہ وغیرہ کوئی چیز پیشانی کے قریب اٹھا کر اس پر سجدہ کرنا مکروہ تحریمی (گناہ) ہے خواہ خود اسی نے وہ چیز اٹھائی

①..... نقصان۔

ہو یا دوسرے نے۔

(10) اگر کوئی اونچی چیز زمین پر رکھی ہوئی ہے اُس پر سجدہ کیا اور رکوع کے لیے صرف اشارہ نہ ہو بلکہ پیٹھ بھی جھکائی تو صحیح ہے بشرطیکہ سجدہ کے شرائط پائے جائیں مثلاً اس چیز کا سخت ہونا جس پر سجدہ کیا کہ اس قدر پیشانی دب گئی ہو کہ پھر دبانے سے نہ دبے اور اس کی اونچائی بارہ انگل سے زیادہ نہ ہو۔ ان شرائط کے پائے جانے کے بعد حقیقۃً رکوع و سجود پائے گئے، اشارہ سے پڑھنے والا اسے نہ کہیں گے اور کھڑا ہو کر پڑھنے والا اس کی اقتدا کر سکتا ہے اور یہ شخص جب اس طرح رکوع و سجود کر سکتا ہے اور قیام پر قادر ہے تو اس پر قیام فرض ہے یا آٹھ نماز (1) میں قیام پر قادر ہو گیا تو جو باقی ہے اسے کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے لہذا جو شخص زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا مگر شرائط مذکورہ کے ساتھ کوئی چیز زمین پر رکھ کر سجدہ کر سکتا ہے، اس پر فرض ہے کہ اسی طرح سجدہ کرے اشارہ جائز نہیں اور اگر وہ چیز جس پر سجدہ کیا ایسی نہیں تو حقیقۃً سجود نہ پایا گیا بلکہ سجدہ کے لیے اشارہ ہوا لہذا کھڑا ہونے والا اس کی اقتدا نہیں کر سکتا اور اگر یہ شخص آٹھ نماز میں قیام پر قادر ہو تو سرے سے پڑھے۔

(11) پیشانی میں زخم ہے کہ سجدہ کے لیے ماتھا نہیں لگا سکتا تو ناک پر سجدہ کرے اور ایسا نہ کیا بلکہ اشارہ کیا تو نماز نہ ہوئی۔ (2)

بہارِ شریعت سے یہ کُل گیارہ مسائل بیان ہوئے جو فرضیتِ قیام اور مریض کی نماز کے علیحدہ علیحدہ بیان میں مذکور ہیں، سہولت کے لئے ترتیب کے

①..... دورانِ نماز۔

②..... بہارِ شریعت، ۲۰۱۱ء-۲۲ء، مختصر ۱۔

ساتھ ان پر نمبر ڈال دیئے ہیں، صرف ان گیارہ مسائل کو اگر تکرار کے ساتھ سمجھ کر ذہن نشین کر لیا جائے تو بیٹھ کر یا اشاروں سے نماز پڑھنے والوں پر ان کی نمازوں کا حکم صاف ظاہر ہو جائے گا بلکہ جو مریض و مجبور نہیں ہیں انہیں بھی ان مسائل کو سیکھ لینا چاہئے کہ کبھی خود بھی ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے ورنہ دوسرے مسلمان مریضوں کی حتیٰ الامکان شرعی رہنمائی کے حوالے سے کام آئیں گے

کرسی کے آگے لگی ہوئی تختی پر سر رکھ کر سجدہ کرنے کا حکم

کرسی کے آگے سجدے کیلئے ٹیبل نما تختی جو لگی ہوتی ہے کرسی پر بیٹھنے والے اس پر سر جما کر سجدہ کر لیتے ہیں ان کا یہ طریقہ درست نہیں کیونکہ یہ حقیقتاً سجدہ نہیں بلکہ سجدے کا اشارہ ہے۔ اور اشارہ سر سے کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ کمر جھکانا ضروری نہیں، رکوع کے اشارے میں سر کو جھکائیں اور سجدے کے اشارے میں اس سے زیادہ جھکائیں، تو کرسی کے ساتھ لگی تختی پر سر رکھنا بالکل غیر ضروری ہے اور عام طور پر وہ لوگ ایسا کرتے ہیں جو مریض کی نماز پڑھنے کے ضروری مسائل سے واقف نہیں ہوتے انہیں نرمی کے ساتھ سمجھا دیا جائے کہ وہ ایسا نہ کریں۔

اور حقیقتاً سجدہ جن پر کرنا ضروری ہوتا ہے ان کا اس تختی پر سر رکھنے کو کافی سمجھنا اعلیٰ درجے کی جہالت ہے، ان کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے، کرسی کی تختی پر سر رکھنے سے حقیقتاً سجدہ ادا نہیں ہوتا، جب سجدہ ادا نہیں ہوتا تو نماز بھی نہیں ہوتی، سجدہ زمین پر یا زمین پر رکھی ہوئی کسی ایسی چیز پر جس کی بلندی بارہ انگل سے زیادہ نہ ہو کیا جائے تو حقیقی سجدہ ادا ہوتا ہے، اس پر قادر نہ ہو تو قیام بھی اصلاً ساقط ہو جاتا

ہے، رکوع و سجود کے اشارے کرنے ہوتے ہیں جیسا کہ اس حوالے سے کافی تفصیل اوپر گزر چکی۔

لہذا سجدہ کا اشارہ کرنے والوں کا کرسی کی تختی پر سر رکھنا لغو بے جا ہے مگر چونکہ اشارہ پایا گیا اس لئے ان کی نماز ہو جاتی ہے جبکہ حقیقی سجدہ پر قادر حضرات کا ایسا کرنا واضح طور پر ناجائز ہے، ان کی نمازیں اس سے برباد ہوتی ہیں۔

یاد رہے کہ جو مسئلہ حدیث شریف اور فقہی جو بیّنات میں مذکور ہے کہ نمازی کا کوئی چیز اٹھا کر سجدہ کرنا یا دوسرے کا اس کے لئے اٹھانا مکروہ تحریمی ہے اس کا کرسی کی تختی سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ خود اس کے ہاتھ میں یا کسی اور کے ہاتھ میں اس کے لئے بلند نہیں ہوتی بلکہ زمین پر رکھی کرسی کے ساتھ ہی لگی ہوتی ہے، اگر کوئی کرسی کی تختی پر سر رکھے گا تو اس بناء پر اسے مکروہ تحریمی قرار دینا درست نہیں ہے۔

چنانچہ ”ملتقى الابحر“ میں ہے: ”ولا يرفع إلی وجهه شيئاً لللسجود.“ یعنی معذور شخص سجدہ کرنے کیلئے اپنے چہرے کی طرف کسی چیز کو بلند نہیں کرے گا۔^(۱)

اس کے تحت علامہ عبدالرحمن بن محمد کلیبولی علیہ الرحمۃ ایک روایت نقل کرتے ہیں: ”أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاد مریضاً فراه یصلی علی و سادۃ فأخذها فرمی بها، وأخذ عوداً لیصلی علیہ فأخذہ فرمی بہ، وقال صل علی الأرض إن استطعت و إلا فأوم و اجعل سجودك أخفض من رکوعك.“ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک بیمار شخص کی عیادت کے

①.....ملتقى الابحر مع شرحه مجمع الانهر، ۱ / ۲۲۸.

لئے گئے آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اسے دیکھا کہ وہ سامنے تکیہ رکھ کر نماز پڑھ رہا ہے آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس سے تکیہ لے کر پھینک دیا۔ اس نے ایک لکڑی لے لی۔ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس لکڑی کو بھی لے کر پھینک دیا اور ارشاد فرمایا کہ سجدہ زمین پر کرو اگر استطاعت ہے ورنہ اشارے سے پڑھو اور سجدہ کرنے میں رکوع سے زیادہ جھکوں۔^(۱)

اسی میں بحوالہ قُوسْتَانِیٰ مذکور ہے کہ ”لو سجد علی شیء مرفوع موضوع علی الأرض لم یکرہ۔“ یعنی اگر کسی ایسی بلند چیز پر سجدہ کیا جو زمین پر رکھی ہوئی ہے تو مکروہ نہیں۔^(۲)

علامہ ابنِ نُجَیْمِ مِصرِی حَفْصِی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ . بحر الرائق میں نقل فرماتے ہیں: ”روی ان عبد اللہ بن مسعود دخل علی اخیہ یعوودہ فوجدہ یصلی ویرفع الیہ عود فیسجد علیہ فتزع ذلك من ید من کان فی یدہ وقال ہذا شیء عرض لکم الشیطان اوم بسجودک وروی ان ابن عمر رأی ذلك من مریض فقال اتتخذون مع اللہ الہة و استدلل للکراہة فی المحيط بنہیہ علیہ السلام عنہ وهو یدل علی کراہة التحریم۔“ یعنی حضرت عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ اپنے بھائی کی عیادت کرنے کے لئے گئے تو ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ کوئی شخص ان کی طرف لکڑی بڑھاتا ہے اور وہ اس پر سجدہ کرتے تو آپ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے اس

①.....مجمع الانہر شرح ملتقى الابحر، ۱/ ۲۲۸.

②.....مجمع الانہر شرح ملتقى الابحر، ۱/ ۲۲۸.

کے ہاتھ سے لکڑی پکڑ لی اور فرمایا یہ چیز تمہیں شیطان نے پیش کی ہے بس تم اشارے سے ہی سجدہ کرو۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے کسی کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: کیا تم اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے ساتھ کسی کو خدا ٹھہراتے ہو۔ اور محیط میں اس کراہت پر نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے منع فرمانے سے استدلال کیا گیا ہے اور آپ کا وہ فرمان کراہتِ تحریمی پر دلالت کرتا ہے۔^(۱)

عَلَامَةٌ فَيُتَامَهُ عِلَاؤُ الدِّينِ حُضْنَتِي عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ بَهِجِي دُرِّ مَخْتَارٍ مِثْلٍ فَرَمَاتِهِ هِيَ:

” (ولا يرفع الي وجهه شيئاً يسجد عليه) فإنه يكره تحريمًا (فإن فعل) بالبناء للمجهول ذكره العيني (وهو يخفض برأسه لسجوده أكثر من ركوعه صح) على أنه إيماء لا سجود إلا أن يجد قوة الأرض“ یعنی اپنی پیشانی کی طرف سجدہ کرنے کے لئے مریض کوئی چیز نہیں اٹھائے گا کیونکہ ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، پھر اگر سجدہ کے لئے کوئی چیز اٹھائی گئی (مجبور کا سینہ ہے جیسا کہ علامہ یعنی رَحْمَةُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ نے اسے ذکر فرمایا ہے) تو اگر رکوع کی بنسبت سجدہ کے لئے زیادہ پست ہوا تھا تو نماز درست ہوئی مگر یہ اشارہ ہی قرار پائے گا (حقیقی سجدہ نہیں) الا یہ کہ اس چیز سے زمین کی طرح سختی محسوس ہو (کہ اب یہ حقیقی سجدہ ہے)۔^(۲)

”دُر“ کی عبارت ”یکرہ تحريمًا“ کے تحت رَدُّ الْمُحْتَارِ میں ہے: ”قال في البحر واستدل للكراهة في المحيط بنهيه عليه الصلوة والسلام عنه وهو يدل على كراهة التحريم اهد وتبعه في النهر اقول: هذا محمول على ما

①..... بحر الرائق شرح كنز الدقائق، ۲ / ۲۰۰.

②..... در مختار مع رد المختار، ۲ / ۶۸۵، ۶۸۶.

اذا كان يحتمل الى وجهه شيئاً يسجد عليه بخلاف ما اذا كان موضوعاً على الارض يدل عليه ما فى الذخيرة حيث نقل عن الاصل الكراهة فى الاول، ثم قال: فان كانت الوسادة موضوعة على الارض وكان يسجد عليها جازت صلاته قد صح ان ام سلمة كانت تسجد على مرفقة موضوعة بين يديها لعله كانت بها ولم يمنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اذ فان مفاد هذه المقابلة والاستدلال عدم الكراهة فى الموضوع على الارض المرتفع ثم رأيت القهستاني صرح بذلك "يعنى بحر میں فرمایا کہ محیط میں اس کراہت پر نبی مکرم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی نبی کی بناء پر استدلال کیا گیا ہے اور وہ نبی کراہت تحریمی پر دلالت کرتی ہے... اھ۔ اور نہر الفائق میں بھی اسی کی پیروی کی ہے۔ علامہ شامی عَلَيْهِ الرِّحْمَةُ فرماتے ہیں کہ "میں کہتا ہوں" کہ کراہت اس صورت پر محمول ہے کہ جب سجدہ کے لئے کوئی چیز پیشانی کی طرف اٹھائی جائے، برخلاف اس صورت کے کہ جب وہ چیز زمین پر رکھی ہو (اس صورت میں یہ کراہت نہیں ہے) ذخیرہ کی عبارت بھی اسی بات پر دلالت کرتی ہے چنانچہ انہوں نے پہلی صورت کے متعلق "اصل" سے کراہت کا قول اسی پہلی صورت کے بارے میں نقل کیا اور پھر فرمایا: "تو اگر تکیہ زمین پر رکھا ہوا ہو اور مریض اس پر سجدہ کرے تو نماز درست ہو جائے گی کہ صحیح حدیث میں ہے کہ ام سلمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا بیماری کی وجہ سے سامنے زمین پر رکھے ہوئے تکیہ پر سجدہ فرماتی تھیں اور نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے انہیں اس سے منع نہیں

فرمایا... اھ۔ (یہ نقل کرنے کے بعد علامہ شامی فُیْدَسِ سِرَّةِ السَّامِیِ فرماتے ہیں:) تو صاحب ذخیرہ کا اس صورت کو صورتِ اول کے مقابل ذکر کرنا پھر حدیث اُمِّ سَلَمَہ سے استِدلال کرنے کا مفاد یہ ہے کہ زمین پر رکھی ہوئی کسی بلند چیز پر سجدہ کرنا مکروہ نہیں ہے، پھر اسی بات کی تصریح میں نے فُہِستائی میں بھی ملاحظہ کی (جو مجمع الانہر کے حوالے سے میں نے اوپر ذکر کی ہے۔ فضیل رضا)۔

اور ”دُر“ کی عبارت ”الا ان یجد قوۃ الارض“ کے تحت علامہ شامی عَلَیْہِ الرُّحْمَہ نے فرمایا: ”هذا الاستثناء مبني على أن قوله: ولا يرفع إلخ شامل لما إذا كان موضوعاً على الأرض وهو خلاف المتبادر بل المتبادر كون المرفوع محمولاً بیده أو يد غيره، وعليه فالاستثناء منقطع لاختصاص ذلك بالموضوع على الأرض ولذا قال الزيلعي: كان ينبغي أن يقال إن كان ذلك الموضوع يصح السجود عليه كان سجوداً وإلا فإيماء اھ وجزم به في شرح المنية. واعترضه في النهر بقوله وعندى فيه نظر لأن خفض الرأس بالركوع ليس إلا إيماء و معلوم أنه لا يصح السجود بدون الركوع ولو كان الموضوع مما يصح السجود عليه. اھ۔“

یعنی یہ استثناء اس صورت پر مبنی ہے کہ مَثْن کی عبارت ”ولا يرفع“ زمین پر رکھی ہوئی چیز پر سجدہ کرنے کی صورت کو بھی شامل ہو جبکہ یہ خلاف متبادر ہے، بلکہ متبادر صورت یہ ہے کہ وہ بلند چیز کہ جس پر سجدہ کیا ہے خود نمازی کے یا کسی اور شخص کے ہاتھ میں بلند ہو اور اس تقدیر پر زمین پر رکھی ہوئی چیز کے ساتھ اس کے

خاص ہونے کی وجہ سے یہ استثناء مُنْقَطِع ہے، اسی لئے امام زَیْلَعی عَلَیْہِ الرُّحْمَةُ نے فرمایا: مناسب ہے کہ یوں کہا جائے کہ اگر اس رکھی ہوئی چیز پر سجدہ کرنا درست ہے تو وہ سجدہ ہے ورنہ اشارہ... اھ۔ اسی پر شرح منیہ میں جزم فرمایا، اور نہر میں علامہ زیلعی رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی اس عبارت پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ میرے نزدیک اس میں نظر ہے کیونکہ رکوع کے لئے پست ہونا اشارہ ہی ہے اور یہ بات بھی مخفی نہیں کہ رکوع کے بغیر سجدہ درست نہیں اگرچہ وہ ایسی چیز پر کیا جائے کہ جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو... اھ۔

(یعنی جب رکوع کرنا حقیقتاً پایا گیا اس کا اشارہ ہی مُتَحَقِّق ہے تو سجدہ کے بارے میں یہ تفصیل کرنا کہ ”موضوع علی الارض“ اگر ایسی چیز ہے کہ اس پر سجدہ ہو سکتا ہے تو سجدہ درست نہیں کہ حقیقتاً رکوع کے بغیر حقیقتاً سجدہ نہیں پایا جاتا اگرچہ وہ چیز ایسی ہو کہ اس پر سجدہ کرنا درست ہو۔ فضیل رضا)

مزید علامہ شامی قُدَسِ سِرُّہُ السَّامِیِ اپنی تحقیق درج فرماتے ہیں کہ ”اقول الحق التفصیل و هو انه ان كان ركوعه بمجرد ايماء الرأس من غير انحناء و ميل الظهر فهذا ايماء لا ركوع فلا يعتبر السجود بعد الايماء مطلقاً و ان كان مع الانحناء كان ركوعاً معتبراً حتى انه يصح من المتطوع القادر على القيام فحينئذ ينظر ان كان الموضوع مما يصح السجود عليه كحجر مثلاً ولم يزد ارتفاعه على قدر لينة او لبنتين فهو سجود حقيقي فيكون راعياً ساجداً لا مومتأ حتى انه يصح اقتداء

القائم به واذا قدر في صلاته على القيام يتمها قائماً وان لم يكن الموضوع كذلك يكون مومناً فلا يصح اقتداء القائم به واذا قدر فيها على القيام استأنفها بل يظهر لي أنه لو كان قادراً على وضع شيء على الأرض مما يصح السجود عليه أنه يلزم ذلك لأنه قادر على الركوع والسجود حقيقة ولا يصح الإيماء بهما مع القدرة عليهما بل شرطه تعذرهما كما هو موضوع المسئلة. (علامہ شامی عَلَيهِ الرَّحْمَةُ فرماتے ہیں: ”میں کہتا ہوں:“ اس مسئلہ میں حق بات یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر رکوع میں محض سر سے اشارہ کیا اس کے ساتھ پشت کو جھکائے بغیر تو یہ اشارہ ہے حقیقتاً رکوع نہیں تو رکوع کے اشارہ کے بعد مطلقاً حقیقی سجدہ معتبر نہیں اور اگر رکوع میں پشت کو جھکایا بھی تو یہ رکوع حقیقتاً معتبر ہے حتیٰ کہ قیام پر قادر شخص کیلئے نفل نماز میں اس کی مطلقاً اجازت ہے۔ تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ اگر وہ زمین پر رکھی چیز ایسی ہے کہ جس پر سجدہ کرنا درست ہے مثلاً پتھر پر کیا اور وہ ایک یا دو اینٹوں سے زیادہ بلند بھی نہیں تو اس پر کیا جانے والا سجدہ حقیقی سجدہ ہے اور نمازی اشارہ کرنے والا نہیں رکوع و سجدہ کرنے والا قرار پائے گا حتیٰ کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے لئے ایسے کی اقتداء کرنا صحیح ہے، اور جب وہ دوران نماز قیام پر قادر ہو جائے تو بقیہ نماز کھڑے ہو کر مکمل کرے گا (نئے سرے سے پڑھنے کی حاجت نہیں)، اور اگر وہ زمین پر رکھی ہوئی چیز ایسی ہے کہ جس پر حقیقتاً سجدہ درست نہیں ہو سکتا تو اب یہ اشارہ سے نماز پڑھنے والا ہوگا لہذا اب قائم اس کی اقتداء نہیں کر سکتا اور اگر یہ دوران نماز

قیام پر قادر ہو جائے تو نماز دوبارہ نئے سرے سے پڑھے گا، بلکہ میرے لئے تو یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شخص زمین پر ایسی چیز کہ جس پر سجدہ صحیح ہو رکھ کر سجدہ کر سکتا ہے تو اس پر ایسا کرنا لازم ہے کہ یہ شخص حقیقتاً رکوع و سجود پر قادر ہے اور ان پر قادر ہوتے ہوئے اشارہ کرنا درست نہیں ہوتا کہ اشارہ کی اجازت رکوع و سجود دونوں کے تعذّر کے وقت ہے جیسا کہ مسئلہ کا موضوع ہی یہ ہے۔^(۱)

حاصل یہ کہ علامہ شامی قُدس سرُّہ السامی کی اس تحقیق ائینق سے جو قول فیصل کا درجہ رکھتی ہے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ حدیث شریف کی ”نہی“ اس پر محمول ہے کہ جب کوئی چیز نمازی کے یا کسی دوسرے کے ہاتھ میں بلند ہو اور اس پر نمازی سر رکھے نہ کہ زمین پر رکھی ہوئی چیز پر۔ یونہی ”دُر“ کی وہم میں ڈالنے والی عبارت ”الا ان یجد قوۃ الارض“ سے پیدا ہونے والے اس مفہوم کو کہ ”فلا یرفع“ کہنا زمین پر رکھی ہوئی بلند چیز کو بھی شامل ہے، خلاف مُتَبَا دِر قَرَار دینا اور مفہوم متبادر کی صراحت کرنا کہ مُصَلّٰی کے اپنے ہاتھ میں یا دوسرے کے ہاتھ میں کوئی چیز مرفوع ہونا ہی ”یرفع“ کا مُحْمَل ہے، اس سے بخوبی ظاہر ہو جاتا ہے کہ زمین پر رکھی ہوئی کسی چیز پر سر رکھنا اس ”نہی“ کی بناء پر مکروہ تحریمی و گناہ نہیں ہے، اگر بارہ اُنْکَل تک اونچی چیز ہو تو اس پر سجدہ کرنا سجدہ حقیقی ہی کہلاتا ہے جب تک اس پر قدرت ہو اشارہ کرنا کفایت نہیں کرتا نماز نہیں ہوتی اور اس سے اونچی چیز جیسا کہ کرسی کے ساتھ لگے ہوئے تختہ ہوتے ہیں اس پر سر رکھنا اشارہ کرنے ہی کے زمرے میں آتا ہے اگرچہ اشارہ کرنے والے کو اس طرح کرنا نہیں چاہئے مگر

①.....رد المحتار، ۲ / ۶۸۵، ۶۸۶.

اس کا ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہرگز نہیں ہے۔

وَاللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

کتبہ

ابو الحسن فضیل رضا القادری العطاری عفا عنہ الباری

۲۸ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۶ھ / 20 مارچ 2015ء

ماخذ و مراجع

نام کتاب	مصنف / مؤلف	مطبوعہ
صحیح البخاری	امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری، متوفی ۲۵۶ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۹ھ
سنن الترمذی	امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی، متوفی ۲۷۹ھ	دار المعرفہ، بیروت ۱۴۱۴ھ
سنن ابی داؤد	امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث جیسائی، متوفی ۲۷۵ھ	دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۴۲۰ھ
ملتیقی الابحر	علامہ ابراہیم بن محمد طلی، متوفی ۹۵۶ھ	کوئٹہ
مجمع الانہر	علامہ عبدالرحمن بن محمد بن سلیمان کلثوبی، متوفی ۱۰۷۸ھ	کوئٹہ
بحر الرائق	علامہ زین الدین بن نجیم، متوفی ۹۷۰ھ	کوئٹہ، ۱۳۳۰ھ
حلبی کبیر	علامہ محمد ابراہیم بن طلی، متوفی ۹۵۶ھ	سٹیبل اکیڈمی لاہور
تنویر الابصار	علامہ شمس الدین محمد بن عبداللہ قرطاش، متوفی ۱۰۰۳ھ	کوئٹہ
در مختار	علامہ علاء الدین محمد بن علی حصکفی، متوفی ۱۰۸۸ھ	کوئٹہ
رد المحتار	علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی، متوفی ۱۲۵۲ھ	کوئٹہ
فتاویٰ رضویہ	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، متوفی ۱۳۳۰ھ	رضا فاؤنڈیشن لاہور، ۱۳۱۸ھ
بہار شریعت	مفتی محمد امجد علی اعظمی، متوفی ۱۳۶۷ھ	مکتبہ المدینہ، باب المدینہ، ۱۳۳۵ھ


فہرست

صفحہ نمبر	موضوع	صفحہ نمبر	موضوع
25	کری کے آگے لگی ہوئی تختی پر سر رکھ کر سجدہ کرنے کا حکم	7	کری پر بیٹھے والا پورا قیام یا کچھ قیام صاف سے
34	ماخذ و مراجع	9	آگے نکل کر کرے تو اس کا حکم
		12	مسجد میں دوران جماعت کرسیاں کہاں رکھنی چاہئیں
			متعلقہ بزنیات

نیک نمازی بننے کیلئے

ہر جمعرات بعد نماز مغرب آپ کے یہاں ہونے والے دعوتِ اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں رضائے الہی کیلئے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ساری رات گزاریں ﴿سنتوں کی تربیت کے لئے مَدَنی قافلے میں عاشقانِ رسول کے ساتھ ہر ماہ تین دن سفر اور ﴿روزانہ ”کلرمہ بیتہ“ کے ذریعے مَدَنی اِثعامات کا ہر سالہ پُر کر کے ہر مَدَنی ماہ کی پہلی تاریخ میں اپنے یہاں کے ذمے دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔

میرا مَدَنی مقصد: ”مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔“ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ۔ اپنی اصلاح کے لیے ”مَدَنی اِثعامات“ پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے ”مَدَنی قافلوں“ میں سفر کرنا ہے۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ



ISBN 978-969-631-506-3



0125249



فیضانِ مدینہ، محلہ سوداگران، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ (کراچی)

UAN: +92 21 111 25 26 92 Ext: 1284

Web: www.dawateislami.net / Email: ilmia@dawateislami.net